

سٹی آف برامپٹن 1 تا 7 نومبر تک کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کا ہفتہ منا ہے

برامپٹن، آن (28 اکتوبر 2022) – سٹی آف برامپٹن 1 تا 7 نومبر تک کے ہفتہ کو کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتہ کے طور پر منا رہا ہے۔ کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتے کے دوران کمیونٹی کو کاربن مونو آکسائیڈ کے خطرات کے بارے میں آگاہی دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی جو ایک بے بو اور نظر نہ آنے والی گیس ہوتی ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس سال کا مرکزی خیال ہے "جس دشمن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے یا چکھ بھی سکتے، وہ آپ کو ہلاک کر سکتا ہے!" اور اس دوران کاربن مونو آکسائیڈ کے الارمز کو کارآمد حالت میں رکھنے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز رہائشیوں کو یاد دلاتی ہے کہ کاربن مونو آکسائیڈ کے الارم چالو حالت میں رکھنے سے آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے اہم مشورے:

- سونے کی تمام جگہوں کے ساتھ کام کرنے والے کاربن مونو آکسائیڈ کے الارم نصب کریں۔
- انہیں ہر مہینے ٹیسٹ کریں۔ ایسے الارم استعمال کرنے پر غور کریں جن میں پریشانی سے پاک 10 سال تک چلنے والی لیٹھیم بیٹری موجود ہوتی ہے۔
- اپنے گھر سے ہنگامی طور پر باہر بھاگنے کا منصوبہ بنائیں اور سال میں دو بار اس کی مشق کریں۔
- گیراج میں گاڑی کو کبھی گرم نہ کریں اور نہ ہی وہاں پر اسٹارٹ حالت میں چھوڑیں۔
- گھر یا گراج کے اندر کبھی بھی باری کیوز یا پروپین کوکرز کے ساتھ نہ پکائیں۔
- گھر یا گراج کے اندر کبھی بھی پروپین ہیٹرز استعمال نہ کریں۔

کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتے اور گھر سے باہر بھاگنے کی منصوبہ بندی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ کرم ملاحظہ کریں:

- [کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کا ہفتہ](#)
- [گھر سے باہر بھاگنے کا ہنگامی منصوبہ](#)
- [گھر سے باہر بھاگنے کا ہنگامی منصوبہ \(کئی زبانوں میں\)](#)

اقتباسات

"کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے اس ہفتے میں، میں ہر ایک کو اپنے گھروں میں کاربن مونو آکسائیڈ کے الارم لگانے اور گھر سے ہنگامی طور پر باہر بھاگنے کا منصوبہ بنانے کی ترغیب دیتا ہوں؛ یہ اہم اقدامات برامپٹن کو صحت بخش اور محفوظ شہر بنانے میں معاون ہوں گے۔ کاربن مونو آکسائیڈ ایک خاموش قاتل ہے۔ مسلسل آگاہی اور حفاظت اور روک تھام کے بارے میں آگاہی ہمارے رہائشیوں کو محفوظ رہنے اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سبقتی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے! ہم تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کاربن مونو آکسائیڈ کے خطرات کے بارے میں جانیں اور خود کو اور اپنے خاندان کو گھر میں محفوظ رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ اپنے گھر سے ہنگامی طور پر باہر بھاگنے کا ایک منصوبہ بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ کاربن مونو آکسائیڈ کے الارم باقاعدگی سے نصب شدہ ہوں اور انہیں ٹیسٹ بھی کرتے رہیں۔"

- رووینا سینتوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کا ہفتہ ہماری کمیونٹی کو اس مہلک گیس کے خطرات اور اپنے گھر میں کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر کو کیسے روکنا ہے، کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کا ایک نادر موقع فراہم کرتا ہے۔ ایندھن جلانے والے آلات اور/یا منسلک شدہ گیس کے ساتھ ہر گھر میں سونے کی تمام جگہوں کے ساتھ کاربن مونو آکسائیڈ کے فعال الارم لگانے کی ضرورت ہے۔ براہ کرم کاربن مونو آکسائیڈ الارمز کی ہر مہینے جانچ کرنا یقینی بنائیں اور سال میں کم از کم ایک بار بیٹریاں بھی تبدیل کریں۔ اس کے علاوہ، رہائشیوں کے پاس ہنگامی طور پر گھر سے باہر بھاگنے کا ایک منصوبہ بھی ضرور موجود ہونا چاہیے اور انہیں سال میں دو بار اس کی مشق کرنی چاہیے۔"

- بل بوئیر، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca